

تیمم والے کے پیچھے وضو والے کی اقتداء

مجیب: ابوالفیضان مولانا عرفان احمد عطاری

فتویٰ نمبر: WAT-1889

تاریخ اجراء: 21 محرم الحرام 1445ھ / 09 اگست 2023ء

دارالافتاء اہلسنت (دعوت اسلامی)

سوال

امام تیمم کر کے آیا ہو اور مقتدی وضو کیے ہوئے ہوں، تو کیا امام اُن کی امامت کروا سکتا ہے؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِکِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

اگر امام کا تیمم کرنا، شرعی اجازت کے ساتھ ہو، یعنی اُسے شریعت نے اجازت دے رکھی ہو کہ تیمم کر لے (مثلاً وہ اس قدر بیمار ہے کہ پانی استعمال نہیں کر سکتا وغیرہ وغیرہ) اور وہ تیمم کر کے نماز پڑھادے، تو اُس کے پیچھے وضو کیے ہوئے مقتدیوں کی نماز بھی ہو جائے گی۔

فتاویٰ عالمگیری میں ہے "ویجوز أن يؤم المتيمم المتوضئین عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - . هكذا في الهداية" ترجمہ: امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف علیہما الرحمۃ کے نزدیک تیمم کرنے والا، وضو کرنے والوں کی امامت کر سکتا ہے۔ اسی طرح ہدایہ میں ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری، کتاب الصلاة، الباب الخامس، الفصل الثالث، ج 01، ص 84، دار الفکر، بیروت)

فتاویٰ رضویہ میں ہے "ہاں جسے بالفعل ایسا مرض موجود ہو، جس میں نہانا نقصان دے گا یا نہانے میں کسی مرض کے پیدا ہو جانے کا خوف ہے اور یہ نقصان و خوف اپنے تجربے سے معلوم ہوں یا طبیب حاذق مسلمان غیر فاسق کے بتائے سے، تو اُس وقت اُسے تیمم سے نماز جائز ہوگی اور اب اس کے پیچھے سب مقتدیوں کی نماز صحیح ہے، غرض امام کا تیمم اور مقتدیوں کا پانی سے طہارت سے ہونا صحتِ امامت میں خلل انداز نہیں، ہاں امام نے تیمم ہی بے اجازت شرع

کیا ہو، تو آپ ہی نہ اس کی ہوگی، نہ اُس کے پیچھے اوروں کی۔" (فتاویٰ رضویہ، ج 06، ص 638، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

بہار شریعت میں ہے "جس نے وضو کیا ہے تیمم والے کی اور پاؤں دھونے والا موزہ پر مسح کرنے والے کی اور
اعضائے وضو کا دھونے والا پٹی پر مسح کرنے والے کی، اقتدا کر سکتا ہے۔" (بہار شریعت، ج 01، حصہ 03، ص 573، مکتبہ
المدینہ)

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ



Darul-Ifta Ahlesunnat (Dawat-e-Islami)



www.daruliftaahlesunnat.net



[daruliftaahlesunnat](https://www.facebook.com/daruliftaahlesunnat)



[DaruliftaAhlesunnat](https://www.youtube.com/DaruliftaAhlesunnat)



[Dar-ul-ifta AhleSunnat](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daruliftaahlesunnat)



feedback@daruliftaahlesunnat.net